



کووڈ-19 کی جانچ اور علاج

اگر آپ کے پاس ویزا نہ بھی ہو، یا آپ اپنے ویزا کی کیفیت کے بارے میں غیر یقینی ہوں، تب بھی آپ کو صحت عامہ کی ہدایات پر عمل کرنا چاہئے۔ اگر آپ اگر آپ بیمار محسوس کر رہے ہیں، تو طبی امداد حاصل کریں اور کووڈ-19 کی جانچ کروائیں۔ ریاستی اور علاقائی حکومتیں کووڈ-19 کی مفت جانچ اور علاج فراہم کر رہی ہیں۔

- [آسٹریلیائی داترلحکومتی خطہ](#)
- [نیو ساوتھ ویلز](#)
- [شمالی خطہ](#)
- [کوئز لینڈ](#)
- [جنوبی آسٹریلیا](#)
- [تسمانیا](#)
- [وکتوریہ](#)
- [مغربی آسٹریلیا](#)

میرے پاس عارضی مہارت کی قلت کا ویزا (ذیلی زمرہ 482) ہے یا عارضی ملازمتی (ہنر مندی) ویزا (ذیلی زمرہ 457) ہے

عارضی مہارت کی قلت اور ذیلی زمرہ 457 ویزا حاملین جن کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے لیکن کووڈ-19 کے سبب انہیں برخواست نہیں کی گیا ہے، انہیں درست ویزا رکھنا ہوگا۔ کاروباری اداروں کو معمول کے بندوبست کے مطابق آپ کے ویزا کی میعاد میں توسیع کرنے کا موقع ملے گا۔

کاروباری ادارے آپ کے ویزا کے ضوابط کی خلاف ورزی کیے بغیر آپ کے اوقات کار کم کرسکیں گے۔

اگر آپ کی ملازمت چھوٹ چکی ہے تو آپ کے پاس اختیارات ہیں

اگر آپ کو کام سے فارغ کر دیا گیا ہے اور فی الحال آپ بے روزگار ہیں، تو آپ کو 60 دنوں کے اندر دوسرا آجر ڈھونڈنا چاہئے یا جہاں ایسا کرنا ممکن ہو، آسٹریلیا سے رخصت ہونے کا انتظام کرنا چاہئے۔

اگر آپ اپنے آبائی ملک واپس نہیں لوٹ سکتے، تو آپ کو درست ویزا رکھنا اور جہاں ضروری ہو، آسٹریلیا کے صحت سے متعلق مشورے پر عمل کرنا ضروری ہے۔

عارضی کام کا ویزا رکھنے والے افراد جو فی الحال کووڈ-19 کے اہم شعبوں، طبی نگہداشت، بزرگوں اور معذور افراد کی نگہداشت، بچوں کی نگہداشت، یا زراعت اور فوڈ پروسیسنگ میں زیر ملازمت ہیں، ایسے افراد [عارضی مصروفیت کا ویزا \(ذیلی زمرہ 408\) آسٹریلیائی حکومت سے توثیق شدہ ایگریمنٹ ایونٹ اسٹریم \(کووڈ-19 وبا کا ویزا\)](#) حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔

کووڈ-19 کی وباء کا ویزا

اگر آپ کے عارضی کام کے ویزا کی میعاد ختم ہو رہی ہے، آپ کسی اہم شعبے میں کام نہیں کر رہے، سفری پابندیوں کی وجہ سے آپ اپنے گھر واپس نہیں لوٹ سکتے اور آپ دوسرے ویزا کے لوازمات کو پورا نہیں کر سکتے، تو پھر بھی آپ کووڈ-19 وباء کا ویزا حاصل کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں۔

اس کے لئے آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ دوسرے ویزا کے لوازمات کو پورا کیوں نہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ بیان اور ثبوت شامل ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ویزا کی درخواست فیس (VAC) ادا کرنے کے لئے کافی رقم نہیں ہے۔